

## Surah 020: Ṭaha - سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[20:0] Da Sunan **ALLAH**, Mafi Rahamah, Mafi Jinqai



[20:1] T. H.\*

*\*20:1 Akwai dalla dallan bayanan manufufin wadannan baqaqen sunan Alqur'ani a matsayin talifin manyan mu'ujizan riyadiyan Alqur'ani a cikin shafi ta 1.*

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

[20:2] Ba mu saukar da Alqur'ani gare ka domin ka wahala ba.

إِلَّا نَذْكُرَ لِمَنْ يَخْشَىٰ

[20:3] Sai domin tunatarwa ga mai girmamawa.

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ

[20:4] Saukarwa daga Mahaliccin qasa da sammai na nesa.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

[20:5] Mafi Rahamah; Ya karbi dukan iko.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

[20:6] Shi ne Mai kome da kome da yake sammai, da qasa, kuma da duk abin da ke tsakaninsu, da abin da ke qarqashin turbaya.

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

[20:7] Kuma ko ka bayyanar da magana (ko a'a) Shi Masanin asiri ne, da abin da ma yake mafi boye.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾

[20:8] **ALLAH**: babu abin bautawa sai Shi. Yana da sunaye mafi kyau.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٩﴾

[20:9] Shin, ko ka lura da labarin Musa?

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا

بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

[20:10] A lokacin da ya ga wata wuta, sai ya ce ga iyalinsa, "Ku dakata a nan. Na tsinkayi wata wuta. Watakila zan iya in zo maku da makamashinta, ko kuwa in sami shiriyar wurin wutan."

فَلَمَّا أَنهَا نُوذِيَ يَمُوسَىٰ ﴿١١﴾

[20:11] Sa'annan da ya je mata, sai aka kira shi, "Ya Musa.

إِنِّي أَنَارُبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

[20:12] "Ni ne Ubangijinka; ka tube takalmanka. Kana kwari ne mai tsarki, Tuwa."

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾

[20:13] "Na zabe ka, saboda haka ka saurara ga abin da za yi wahayi."

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

[20:14] "Ni ne **ALLAH**; babu abin bautawa sai Ni. Sai ka bauta Mini, kuma ka tsayar da Sallah domin tunawa da Ni.

١٥ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

*Qarshen Duniya Ba Aboye Take Ba*

[20:15] "Lalle ne, sa'a mai zuwa ce; zan kusan boye ta, domin a saka wa kowace rai da abin da take aikatawa.

*\*20:15 An bayyana qarshen duniya a cikin Alqur'ani, littafin qarshe [15:87].*

١٦ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ

[20:16] Saboda haka, kada wanda basu yi imani ba da ita su janye hankalinka daga ita – wadanda suke bin ra'ayinsu – har ka fadi.

١٧ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ

[20:17] "Kuma mene ne ke hannun damarka, Musa?"

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا

١٨ مَآرِبٌ أُخْرَىٰ

[20:18] Ya ce, "Wannan sanda na ce. Ina dogara ga ita, kuma ina kiwon tumaki da ita, kuma ina amfani da ita ga wasu bukату."

قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَى ﴿١٩﴾

[20:19] Ya ce, "Ka jefar da ita a qasa, Musa."

فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾

[20:20] Sai ya jefar da ita a qasa, daga nan sai ta rikida zuwa macijiya mai tafiya da sauri.

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾

[20:21] Ya ce, Ka kama ta, kada ka ji tsoro. Za mu mayar da ita yadda da take.

وَأَضْمَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ ءَايَةٌ أُخْرَى ﴿٢٢﴾

[20:22] "Kuma ka riqe hannunka a cikin hammatarka; zai fito fari ba tare da wani lahani ba; wata aya ta dabam.

لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾

[20:23] "Domin nuna maka wasu manyan mu'ujizanMu.

أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾

[20:24] "Ka tafi zuwa Fir'auna, saboda ya qetare iyaka."

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

[20:25] Ya ce, "Ubangijina, Ka sanyaya mini hushi na.

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

[20:26] Kuma Ka yi mini sauqin wannan al'amari.

وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

[20:27] Kuma Ka kwance mini wani qulli daga harshe na.

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

[20:28] "domin su fahimci maganata.

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

[20:29] Kuma Ka sany mini wani mataimaki daga mutanena.

هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

[20:30] "Dan'uwana Haruna.

أَشَدُّ دَبِيحَةً أَزْرِي ﴿٣١﴾

[20:31] "Ka qarfafa ni tare da shi.

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

[20:32] Ka sa ya zama dan'uwana cikin wannan al'amarin.

كِي نَسَبَحَكَ كَثِيرًا ٣٣

[20:33] "Domin mu tsarkake Ka kullum.

وَنَذُرُكَ كَثِيرًا ٣٤

[20:34] Kuma mu tuna Ka kullum.

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٥

[20:35] "Kai Mai ganin mu ne."

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ٣٦

[20:36] Ya ce, "An baka roqonka, ya Musa.

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٧

[20:37] "Mun yi wata baiwa gare ka a wani lokaci na dabam.

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ٣٨

[20:38] "A lokacin da Muka yi wahayi zuwa ga mamanka da abin da muka yi wahayi.

أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ

لِي وَعَدُوٌّ لَهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ٣٩

[20:39] "Da cewa: 'Ki sa shi a cikin akwati, sa'annan ke jefa shi a cikin kogi. Kogin zai jefa shi a gaba, domin maqiyi Na da maqiyi shi zai dauke shi.' Kuma sai na sanya maka soyayya daga gare Ni, kuma domin a rike ka da kyau a kan gani Na.

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

﴿٤٠﴾

[20:40] "A lokacin da 'yar'uwarka ta je gare su ta ce, 'Zan gaya maku game da wanda zata rene shi ta keyaye shi.' Ta haka ne muka mayar da kai zuwa ga mamanka, domin ta yi farin ciki kuma ta bar damuwa. Kuma a lokacin da ka kashe mutum, sai muka tsare ka daga baqin cikin da zai biyo baya; lalle mun jarraba ka na sosai. Sa'annan ka tsaya shekaru masu yawa da mutanen Midyana, kuma ga shi ka dawo daidai da shirin qaddara, Ya Musa.

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

[20:41] "Kuma na zaba wa Kaina kai.

أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنبِئَا فِي ذِكْرِي

[20:42] "Ka tafi kai da dan'uwaruka, da ayoyiNa, kuma kada ka yi rauni ga ambatoNa.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

[20:43] "Ku tafi ku biyu zuwa ga Fir'auna, saboda ya qetare iyaka.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَهُ ۗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

[20:44] "Sai ku yi masa magana mai laushi; watakila ya hankalta, ko ya ji tsoro."



قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ٤٥

[20:45] Suka ce, "Ubanjijinmu, muna jin tsoro kada ya kai mana farmaki, ko taga."

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦

[20:46] Ya ce, "Kada ku ji tsoro, saboda zan kasance tare daku, ina sauraro kuma ina kallo."

فَأَنبَاهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ٤٧

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَىٰ ٤٧

[20:47] "Ku je masa sai ku ce, 'Mu manzanni ne guda biyu daga Ubangijinka. Ka saki Bani Isara'ila su tafi tare da mu. Ka dena azabta masu. Lalle, mun zo maka da wata ayah daga Ubangijinka, kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya'."

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨

[20:48] " 'An yi wahayi zuwa gare mu, cewa azaba tana a kan wanda ya qaryata, kuma ya juya baya.' "

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ٤٩

[20:49] Ya ce, "Wane ne Ubangijinku, Ya Musa."

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠

[20:50] Ya ce, "Ubanjijinmu Shi ne wanda Ya baiwa dukan kome halittarsa, sa'annan Ya shiriyar."

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥١﴾

[20:51] Ya ce, "To, yaya halin qarnonin farko?"

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

[20:52] Ya ce, "Saninsu yana wurin Ubangijina a rubuce. Ubangijina ba Ya kuskure, kuma ba Ya mantuwa."

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

[20:53] Shi ne wanda Ya sanya maku qasa wurin zama, Ya yi maku deben hanyoyi a cikinta. Kuma Ya saukar daga sama ruwa wanda muke fitar da nau'in tsiro dabam dabam.

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

[20:54] Ku ci kuma ku yi kiwon dabbobin ni'imarku. Wadannan ayoyi ne ga masu hankali.\*

*\*20:54 Wadanda suke da hankali sun san falalan cewa mu 'yan saman jannati ne wanda aka sanya mu a cikin jirgin saman jannatin duniya. Allah Ya tanadar mana da abinci, da ruwa, da dabbobin gida, da dabbobin dawa, masu sarrafawa su zama sabo, sa'ad da muke a cikin wannan jirgin samman saman jannati na wani qayyadadden lokaci. Kwatanta wannan baiwan Allah da jirgin samman jannati wanda ke dauke da tanadin da muke baiwa 'yan saman jannatinmu (shafi 7).*

﴿٥٥﴾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

[20:55] Daga gare ta ne Muka halicce ku, kuma a cikinta ne za mu mayar da ku, sa'annan daga gare ta ne za mu sake fito da ku a wani lokaci na dabam.

﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾

[20:56] Mun nuna masa ayoyinMu dukansu, amma sai ya qaryata kuma ya qiya.

﴿٥٧﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٧﴾

[20:57] Ya ce, "Shin, ka zo mana ne nan domin ka fitar da mu daga qasarmu dangane da sihirinka, Ya Musa?"

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، وَنَحْنُ

﴿٥٨﴾ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَى ﴿٥٨﴾

[20:58] "Lalle ne, za mu nuna maka sihiri irinsa. Saboda haka, ka sa rana, a wurin da ya dace, wanda kowanenmu ba zai fasa halarta ba."

﴿٥٩﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

[20:59] Ya ce, "Wa'adinku shi ne ranar idi. Kuma duka mu taru hantsi."

﴿٦٠﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾

[20:60] Sai Fir'auna ya tara rundunarsa, sa'annan ya zo.

قَالَ لَهُم مُوسَى وَيَلَيْكُم لَاتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم  
بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦١﴾

[20:61] Musa ya ce masu, "Kaitonku. Shin, za ku qirqira qarya ne ku yaqi ALLAH da shi, kuma ku jawo wa kanku azaba? Wanda ya qirqira qarya ya tabe."

فَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾

[20:62] Sai suka yi iayayya a tsakaninsu, sa'ad da suke ganawa asirce.

قَالُوا إِن هَذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا  
وَيَذَّهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٦٣﴾

[20:63] Suka ce, "Wadannan biyun masahirita ne, wanda suke neman su fitar da ku a qasarku da sibirinsu, kuma su lalata mafificin tabi'arku.

فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾

[20:64] "To, sai mu yadda mu hada dabararmu domin mu kasance masu hada kai a sahu guda. Wanda ya rinjaya yau, shi ya rabbanta.

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ الْقَى ﴿٦٥﴾

[20:65] Suka ce, "Ya Musa, sai ka jefa, ko kuma mu kasance farkon masu jefawa."

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَابُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا

تَسْعَى ﴿٦٦﴾

[20:66] Ya ce, "A'a, ku jefa." Sai kuwa ga igiyoyinsu da sandunansu sun bayyana gare shi, saboda sibirinsu, kamar suna tafiya da sauri.

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ﴿٦٧﴾

[20:67] Sai Musa ya ji tsoro a cikin ransa.

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾

[20:68] Muka ce, "Kada ka ji tsoro. Kai ne za ka rinjaya.

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ نَلَقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يَفْلِحُ

السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾

[20:69] "Ka jefa abin da ke hannunka, kuma zai hadiye abin da suka qirqira. Abin da suka qirqira makirci ne na masu sihiri. Kuma masihirci ba zai ci nasara ba a duk in da yake."

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا أَمْ نَأْتِي هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾

*Gogaye Sun Fahimci Gaskiya*

[20:70] Sai masihiritan suka yi sujudah, suna cewa, "Mun yi imani da Ubangijin Haruna da Musa."

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ  
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلَبِنَاكُمْ فِي جُدُوعٍ

النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾

[20:71] Ya ce, "Kun yi imani da shi ba tare da na baku izini ba? To, ashe, babbanku ne; wanda ya koya maku sihiri. Lalle kuwa zan yayanka hannuwanku da qafafunku a tarnaqi. Kuma zan tsire ku a jikin itatuwan dabino. Za ku sani wanda ya fi tsananin azaba, da wanda ya fi wanzuwa."

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا

أنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

[20:72] Suka ce, "Ba za mu fi son ka ba, a kan abin da ya zo mana faufau na hujjoji. Saboda haka, ka yanke duk hukunci da kake so. Hukuncinka na nan yaruwan duniya ce kawai.

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ

وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾

[20:73] "Lalle, mu, mun yi imani da Ubangijinmu, domin Ya gafarta mana laifukanmu, da abin da aka tilasta mu na sihiri. **ALLAH** ne Mafi alheri, kuma Mafi wanzuwa."

إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبَّهُ، مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ، جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾

[20:74] Duk wanda ya je wa Ubangijinsa da laifi, to, yana da Jahannamah, ba ya mutuwa a cikinta, kuma ba ya rayuwa.

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ

الْعُلَى ٧٥

[20:75] Amma wadanda suka je Masa suna mu'minai, alhali kuwa sun aikata ayyukan qwarai, wadannan suna da matsayi masu daraja.

جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ

تَزَكَّى ٧٦

[20:76] Gidajen Aljannar zama, a koguna suna gudana daga qarqashinsu, za su kasance madauwama a cikinsu. Kuma wannan ne sakamakon wadanda suka tsakake kansu.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي

الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ٧٧

[20:77] Sai Muka yi wahayi ga Musa cewa: "Ka jagoranci bayiNa, sa'annan ka doka masu qafafen hanya a qetaren teku. Kada ku ji tsoron cewa za kama ku, kuma kada ku damu."

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨

[20:78] Sai Fir'auna ya bi su, shi da rundunarsa, amma sai teku ta rufe su, kamar yadda aka nufa ta rufe su.

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

[20:79] Ta haka ne, Fir'auna ya batar da mutanensa; bai shiriyad da su ba.

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾

[20:80] Ya Bani Isra'ila, mun tsirad da ku daga maqiyanku, kuma muka tara ku a gefan dama na tsaunin Sinai, kuma muka saukar maku da '*almanna*' da barbarwa dominku.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي

وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

[20:81] Ku ci daga abubuwa masu kyau wanda muka tanadar maku, kuma kada ku qetare iyaka, har hushiNa ya sauka a kanku. Duk wanda hushiNa ya sauka a kansa ya fadi.

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

[20:82] Amma lalle Ni Mai gafara ne ga wadanda suka tuba, kuma suka yi imani, kuma suka aikata ayyuka na qwarai, sa'annan suka kasance shiriyayyu.

﴿٨٣﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ❖

*Bani Isra'ila Sun Yi Tawaye*

[20:83] "Mene ne ya gaugautar da kai daga barin mutanenka, Ya Musa?"



قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

[20:84] Ya ce, "Su ne wadannan a kan sawuna. Na yi gaugawa zuwa gare Ka, Ubangina, domin Ka yarda ne."

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

[20:85] Ya ce, "Mun sanya mutanenka a kan jarrabta daga bayanka, amma Samiriyan ya batar da su."

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ

عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

[20:86] Musa ya koma zuwa ga mutanensa, da fushi ransa abace, yana cewa, "Ya mutane na, shin, Ubangijinku bai yi maku alkawari mai kyau ba? Shin, lokacin ya yi maku nisa ne? Ko, kuna so ne ku jawo wa kanku fushi daga wurin Ubangijinku? Saboda haka ne kuka karya alkawarinku da ni?"

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ

الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

[20:87] Suka ce, "Ba da gangan ne muka karya alkawari da kai ba. Amma an dora mana kayan ado ne na zinari, sai muka jefa kayan mu a ciki. Abin da Samiriyan ya shawarta kenan."

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ

مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

[20:88] Sai ya fito masu da `yar tsanar maraqi, yana ruri.\* Suka ce, "Abin bautawa ku ke ga, da abin bautawar Musa." To, kenan ya manta.

أَفَلَا يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

[20:89] To, shin, ba su gani cewa baya mayar masu da magana, kuma bai mallaki wani iko na cutarsu, ko amfani gare su?

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

[20:90] Kuma Haruna ya gaya masu, "Ya mutanena, wannan jarrabawa ne kawai gare ku. Ubangijinku kawai Shi ne Mafi rahamah, saboda haka ku bi ni, kuma ku yi biyayya ga umurnina."

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

[20:91] Suka ce, "Za mu ci gaba da bauta masa, har Musa ya dawo."

قَالَ يَهْرُونَ مَأْمَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

[20:92] (Musa) ya ce, "Ya Haruna, mene ne ya hana ka, sa'ad da ka gan sun bata,

أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

[20:93] "daga bin umurnina? Shin, ka yi mini tawaye ne?"

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحِيَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

[20:94] Ya ce, "Ya dan'uwana; kada ka ja ni ga gemuna da kaina. Na ji tsoron kada ka ce, 'Ka rabe Bani Isra'ila, kuma ka qi bin umurnina.' "

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَمِيرِيُّ ﴿٩٥﴾

[20:95] Ya ce, "Mene ke damunka ne, Ya Samiriyar?"

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ

الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

[20:96] Ya ce, na ga abin da basu iya gani ba. Na debi a hannu (yashi) daga wurin da manzo ya tsaya, sai na yi amfani da shi (in kwaba cikin narkaken zinariya). Wannan abin da tunani ya zo mini da inyi kenan."

*\*20:88 & 96 Samiriyar ya je wurin da Allah Ya yi magana da Musa, sai ya debi yashin wurin da sautin Allah ya amsa kuwa, a hannunsa. Wannan yashin, idan aka kwaba da narkaken zinariya, yana sanya gunkin zinariyan ya yi rurin maraƙi ko saurin shanu.*

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ  
 مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا  
 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

[20:97] (Musa) ya ce, "To, ka tafi, kuma, duk rayuwarka, kada ka zo, ko kusa. Kana da wa'adi (sakamakonka) wanda ba za ka kubuce wa ba. Kuma ka dubi gunkinka wanda ka yi masa bauta; za mu qona shi sa'annan mu jefar da shi ta iska a cikin teku."

﴿٩٨﴾ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

[20:98] Abin bautawarku kawai Shi ne **ALLAH**; wanda babu wani abin bautawa sai Shi. Kuma Ya yalwaci dukan kome da ilmi.

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَايَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا  
 ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

[20:99] Kamar haka ne muke labartawa a gare ka daga abin da ya gabata. Kuma mun baka zikiri daga wurinmu.

﴿١٠٠﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا

[20:100] Wadanda suka kau da kai daga gare shi, to, za su dauki kayan (zunubi) a Ranar Alqiyamah.

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

[20:101] Za su yi madauwamar zama a cikinsa; wannan daukan nauyin zullumi ne a Ranar Alqiyamah.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

[20:102] Kenan Ranar hura qaho, sa'annan mu tara masu laifi, a ranar nan, da idanunsu jajaye.

يَتَخَفَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

[20:103] Suna rada magana a tsakaninsu, za su ce, "Zaman da kuka yi a duniya bai fi kwana goma ba!"

مَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

[20:104] Mu ne mafi sani ga abin da suke furtawa. Mafi daidai (furci) a cikinsu zai ce, "Mun zauna na yini guda ne."

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

*A Ranar Alqiyamah*

[20:105] Kumar idan suna tambayarka game da tsanika. Ka ce, "Ubangijina zai shafe su.

فِيْذُرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

[20:106] Zai mayar da su kamar faqo, shimfidadden qasa.

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

[20:107] “Ba za ka ga, ko da dan tudu ba a cikinsa, ko wani dan gangare.”

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجٍ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ  
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

[20:108] A ranar nan, kowa zai bi mai kira, ba tare da karkata ba a gare shi, ko kadan. Kuma duka sautika za su yi shiru tsit, a gaban Mafi Rahamah; ba za ka ji kome ba sai sautin rada.

يَوْمَئِذٍ لَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

[20:109] A ranar nan, ceto ba ya da amfani, sai wadanda aka ba su izini daga Mafi rahamah, kuma wadanda maganarsu ya zama daidai da izininSa.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴿١١٠﴾

[20:110] Ya san abin da yake gabansu da abin da yake bayansu, alhali babu wanda ya san zurfin ilminSa.

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

[20:111] Kuma duka fuskoki za su qasqastad da kai zuwa ga Rayayye, Madauwami, kuma wadanda suka dauko kayan zalunci za su tabe.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا

هَضْمًا ﴿١١٢﴾

[20:112] Amma wadanda suka aikata ayyukan qwarai, alhali suna da imani, ba za su ji tsoron wani zalunci, ko wahala ba.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

[20:113] Kuma haka Muka saukar da shi, Alqur'ani ta harshen larabci, kuma muka sarrafa a cikinsa ambatan abubuwa dabam dabam, la'alla su kubuta, ko ya sa su yi tunani.

فَنَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ

إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

[20:114] Mafi daukaka Shi ne **ALLAH**, Mamallakin gaskiya. Kada ka yi garaje da Alqur'ani kafin a yi wahayinsa zuwa gare ka, kuma ka ce, "Ubangijina, Ka qara mini ilmi."

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

*Mutum Bai Yi Tabbataccen Tsayi Ba*

[20:115] Mun gwada Adam a gabani, amma sai ya manta, kuma muka same shi mai rashin qarfin zuciya.

*\*20:115 Sa'ad da Sadan ya qalubalence ikon Allah [38:69] dukanmu ba mu yi tabbaccen tsayawa domin nuna rashin goyan baya da Shadan ba. Allah yana ba mu wata dama ne, a nan duniya, mu tuba da qaurecewa ga Shatan sa'annan mu riqi dukkan iko daga Allah (shafi 7).*

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

[20:116] Kuma sa'ad da muka ce wa mala'iku, "Ku yi sujudah ga Adam." Sai suka yi sujudah, ban da Iblis; ya qiya.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ

فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

[20:117] Sai Muka ce, "Ya Adam, wannan maqiyinka ne, kai da matarka. Saboda haka, kada ku bari ya fitar da ku daga Aljannah, har ku kasance masu wahala.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

[20:118] "An tabbatar maka, ba za ji yunwa ba a cikinta, kuma ba za ka yi tsiraici ba.



وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

[20:119] "Kuma ba za ka ji qishirwa ba, kuma ba za ka shiga hantsi ba."

فَوَسَّوَسَ إِلَى الشَّيْطَانِ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

الْمَخْلُودِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ﴿١٢٠﴾

[20:120] Amma sai Shaidan ya sanya waswasi zuwa gare shi, da cewa, "Ya Adam, bari in nuna maka itaciyar dauwama da mulki wanda baya qarewa."

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْءٌ تَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَى ﴿١٢١﴾

[20:121] Sai suka ci daga gare ta, saboda haka sai al'auransu suka bayyana gare su, sai suka yi qoqarin su refe kansu da ganyen Aljannah. Ta haka ne, Adam ya saba wa Ubangijinsa, saboda haka ya wahala.

ثُمَّ اجْنَبْهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾

[20:122] Sa'annan daga baya, Ubangijinsa Ya zabe shi, Ya karbi tuba gere shi, kuma Ya shiriyad da shi.

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا  
يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا  
يَشْقَى ۝١٢٣

[20:123] Ya ce, "Ku sauka daga wurin, dukanku. Ku maqiya ne ga junanku. To, amma idan shiriya ta zo maku, daga gare Ni, duk wanda ya bi shiryarwaTa, ba zai bata ba, kuma ba zai wahala ba.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝١٢٤

*Su Kafirai: Rayuwar Wahala ne Babu Kubuta*

[20:124] "Amma wanda ya bijire daga ambatoNa, to, quncin rayuwa ta tabbata a gare shi, kuma za mu tayar da shi, a ranar Alqiyama, makaho."

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝١٢٥

[20:125] Zai ce, "Ubangijina, don me Ka tayar da ni makaho, alhali kuwa da ni mai kani ne?"

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنسِي  
١٢٦

[20:126] Sai Ya ce, "Saboda ka manta da ayoyinMu sa'ad da suka zo maka, domin haka ne a yau aka manta da kai."

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ  
وَأَبْقَى ۗ

[20:127] Kamar haka ne muke saka wa wanda ya qetare iyaka kuma bai yi imani da ayoyin Ubangijinsa ba. Kuma azabar Lahira ce mafi tsanani, mafi wanzuwa.

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ۗ

[20:128] Shin, ko tunani ya taba zuwa masu cewa, da yawa Muka halakar da mutanen zamanin da? Yanzu suna tafiya a cikin gidagen wanda suka gabace su. Wadandan ayoyi ne ga wadanda suke da hankali.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۗ

[20:129] Kuma ba domin wata kalmar shiri ba, da an hukunta su nan da nan.

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ  
غُرُوبِهَا ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۗ

[20:130] Saboda haka, ka yi haquga a kan abin da suke furtawa, kuma ka tasbihi da gode wa Ubangijinka gabanin fitowar rana, da gabanin fadiwarta. Kuma cikin dare sai ka yi tasbihi, da kuma qarische biyu na yini, la'alla ka sami yarda.

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

[20:131] Kumar kada ka yi kodayin abin da muka baiwa wasu mutane. Wadannan abin ado ne na rayuwar duniya, domin mu jarraba su da shi. Abin da Ubangijinka Ya arzuta ka shi ne mafi alheri, kuma mafi wazuwa.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾


*Alhakin Da Ke Kan Iyaye*

[20:132] Ka umurci iyalanka da Sallah, kuma kayi haquri da yin haka. Ba Mu tambayarka wani arziki; mu ne muke arzuta ka. Aqiba mai kyau tana ga taqawa.

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ  
الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾


[20:133] Sun ce, "Idan da kawai zai nuna mana wata mu'ujiza daga Ubangijinsa!" Shin, ba karbi isassun mu'ijizai ba ne a cikin littafan farko?

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَخْزِي 

[20:134] Idan da mun halakar da su gabanin wannan, da sun ce,  
"Ubangijinmu, da Ka aika da manzo zuwa gare mu, da mun bi ayoyinKa,  
kuma da mun kau da wannan taqaitawa da wulakanci."

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ

السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى 

[20:135] Ka ce, "Dukanmu muna jira, sai ku jira; za ku san su wane ne ke  
kan tafarki madaidaciya, kuma su wane ne ya nemi shiryuwa."